



سوال

(309) خاوند کی اجازت کے بغیر عورت کا گھر سے باہر جانا

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

خاوند کی اجازت کے بغیر عورت کا بازار جانا کیا حکم رکھتا ہے؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

اگر عورت گھر سے باہر جانا چاہے تو اسے خاوند کو بتا کر جانا چاہیے کہ اسے کہاں جانا ہے۔ خاوند بھی اسے ایسی جگہ جانے کی اجازت دے دے جہاں کسی فتنہ و فساد کا ڈرنہ ہو، اس لیے کہ خاوند اس کی بہتری کے بارے میں زیادہ واقفیت رکھتا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَأَنْ تَنْبِئُ الْمَرْءَ الَّذِي يَخْفَىٰ بِالنِّسَابِ وَالزَّجَالَ عَلَيْهِنَ دَرَجَةٌ (البقرة 228)

”اور عورتوں کا بھی حق ہے جیسا کہ عورتوں پر حق ہے، موافق دستور (شرعی) کے اور مردوں کو عورتوں پر ایک گونہ فضیلت حاصل ہے۔“

دوسری جگہ ارشاد ہوا:

الزَّجَالَ قَوَامُونَ عَلَى النِّسَابِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ (النساء 4 34)

”مرد عورتوں پر حاکم ہیں اس لیے کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے۔“ -- دارالافتاء کمیٹی --

هذا ما عندي والله اعلم بالصواب

فتاویٰ برائے خواتین

مختلف فتاویٰ جات، صفحہ: 334



محدث فتویٰ